

## Tarjuma Tul Quran Majeed - FSc Part 2 Tarjimatul Quran Chapter 5 Short Questions Test

Q1. سورة التوبہ میں کل کتنی آیات ہیں.

**Ans 1:** سورة التوبہ میں کل ایک سو انتیس آیات ہیں.

Q2. انفال یعنی مال غنیمت سے کیا مراد ہے.

**Ans 1:** انفال نفل کی جمع ہے نفل زائد چیز کو کہتے ہیں۔ مال غنیمت کو نفل اس لیے کہا جاتا ہے کیوں کہ وہ اصل مقصود سے زائد ہوتا تھا۔ جہاد سے مقصود تو آخرت کار ہے اجر اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ مال کا ملنا، اللہ تعالیٰ کا فضل اور عطیہ ہے۔

Q3. سورة ال عمران میں کن لوگوں کو عقل مند قرار دیا گیا ہے.

**Ans 1:** سورة ال عمران میں عقل مند وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں۔ کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ بے کار پیدا نہیں کیا گیا۔ پھر اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ ہماری تخلیق بھی بے کار نہیں ہے۔

Q4. سورة البقرہ میں کس جانور کا ذکر ہے.

**Ans 1:** سورة البقرہ میں گائے کا ذکر ہے.

Q5. سورة البقرہ کے مضامین کی گہرائی اور وسعت کے بارے میں تحریر کریں.

**Ans 1:** سورة البقرہ کے مضامین کی گہرائی اور وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو اس سورت کو مکمل طور پر سیکھنے میں بارہ سال لگے، جب کہ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورت کو آٹھ سال میں اس کے تمام مضامین کے ساتھ سیکھا۔

Q6. سورت ال عمران میں کتنی آیات ہیں.

**Ans 1:** سورت ال عمران میں کل دو سو آیات ہیں.

Q7. سورة البقرہ کا آغاز تحریر کریں.

**Ans 1:** سورة البقرہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ حروف مقطعات قرآن مجید کی کچھ سورتوں کے شروع میں آنے والے وہ حروف ہیں جن کے معانی اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

Q8. سورة ال عمران کی کون سی آیت مباہلہ کہلاتی ہے.

**Ans 1:** سورة ال عمران کی آیت اکسٹھ ایت مباہلہ کہلاتی ہے.

---

Q9. -سورة التوبہ کے دو نام تحریر کریں.

**Ans 1:** مفکرین نے اس سورت کے مختلف نام ذکر کیے ہیں لیکن زیادہ مشہور نام ہیں۔ سورة التوبہ اور سورة البراءة ہے

---

Q10. -لفظ کے معنی تحریر کریں۔ یسلونک۔ اصلحوا۔ وجلت۔ یتوکلون۔ فتنہ۔ فتنشلوا۔ بطرا۔

**Ans 1:** یسلونک۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اصلحوا۔ درست رکھو۔ وجلت۔ کانپ اٹھتے ہیں۔ یتوکلون۔ وہ توکل کرتے ہیں۔ فتنہ۔ کوئی لشکر فتنشلوا۔ ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے۔ بطرا۔ اکڑتے ہوئے

---